



Kashmir Global Council

15th May 2020

کشمیر گلوبل کونسل کی جانب سے کشمیری دانشور مرتضیٰ شبلی کو دی جانے والی دھمکیوں کی مذمت

ٹورانٹو اور نیو یارک | ۱۵ مئی ۲۰۲۰ء

شمالی امریکا میں قائم کشمیر گلوبل کونسل نے اپنے ایک بیان میں معروف کشمیری صحافی ، مفکر اور مصنف مرتضیٰ شبلی جو پچھلے چند مہینے سے لاہور، پاکستان میں اپنی فیملی کے ساتھ مقیم ہیں کے خلاف مذموم پروپیگنڈا مہم اور نامعلوم ذرائع سے دی جانے والی دھمکیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ مرتضیٰ شبلی نے حال ہی میں ایک سینئر پاکستانی صحافی انیق نجی کے ساتھ اپنے ویڈیو انٹرویو میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اس کردار کی رونمائی کی جسکی وجہ سے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے لوگوں کے حالات مزید ابتر ہو گئے ہیں۔ دوران انٹرویو شبلی صاحب نے بھارتی قبضے میں گھرے اپنے ہموطنوں کے دکھوں کا مداوا کرنے کے لئے بہت سے نئے خیالات پیش کیے جن سے لگتا ہے کہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ عناصر جھنجلا گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مرتضیٰ شبلی کے خلاف پروپیگنڈا اور کردار کشی کی ایک باضابطہ مہم شروع کی گئی ہے جسکا واحد مقصد غیر جانبدار کشمیری دانشوروں اور صحافیوں کو اپنی آزادانہ اظہار رائے سے روکنا ہے تاکہ صرف سرکاری طور پر تصدیق شدہ خیالات کی ترویج ہی کی جاسکے اور کشمیریوں کے جذبات اور احساسات کو مسخ شدہ انداز میں پیش کیا جاسکے۔

مرتضیٰ شبلی کے خلاف اس تازہ اور زہریلے پروپیگنڈے اور دھمکیوں سے یہ بات ایک بات پھر واضح ہو جاتی ہے کہ بھارت اور پاکستان میں آزادانہ رائے رکھنے والے کشمیری صحافیوں کو کس قدر مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس سے پہلے بھی کشمیری صحافیوں کو پروپیگنڈا کا نشانہ بنایا گیا جو بعد میں نامعلوم افراد کے ہاتھوں انکے قتل کا باعث بن گیا۔

کشمیر گلوبل کونسل ہر فرد کی رائے یا نقطہ نظر سے قطع نظر آزادانہ اظہار خیال اور تقریر کے حق کا احترام اور اسے برقرار رکھنے پر یقین رکھتی ہے۔ ہم کسی بھی آواز خاصکر ان صحافیوں اور دانشوروں کو جو کشمیر کے بارے میں ایک بامقصد مکالمے کو فروغ دینا چاہتے ہیں کو ایسے مکروہ طریقوں سے دبانے اور خاموش کرانے کی مذمت کرتے ہیں۔

Regards,
Dr. Humaira Gower
Chief spokesperson
Kashmir Global Council
Tel +1301 820 2794
<http://kashmirglobalcouncil.com/>

